

## لاکھوں مریضوں کے لاکھوں ریکارڈز گریٹر نیویارک کے لئے قابل اعتماد ریسورس



### صحت کی معلومات کا تبادلہ: حقائق

بہتر رسائی کا مطلب ہے بہتر نگہداشت۔

جب بھی آپ Healthix میں شامل کسی طبی نگہداشت فراہم کنندہ سے طبی نگہداشت موصول کرتے ہیں، جیسے کہ کوئی اسپتال، نرسنگ ہوم، معالج، گھر پر نگہداشت کرنے والے نرس یا لیب، تو آپ کے منفرد طبی ریکارڈوں میں آپ کی صحت کی حالت، معالج، جانچوں کے نتائج اور علاج سے متعلق معلومات شامل کر کے ان کو ازخود اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے ریکارڈوں میں رسائی کرنے سے آپ کی طبی نگہداشت کرنے والی ٹیم کو وہ معلومات حاصل ہوتی ہیں جو انہیں آپ کی طبی روئداد کی نسبتاً مکمل فہم کی بنیاد پر بہتر نگہداشت فراہم کرنے میں مدد کرسکتی ہیں۔

#### Healthix کے ذریعہ کس طرح کی معلومات تک رسائی کی جاسکتی ہے؟

لیب اور ریڈیولوجی کے نتائج، آپ کی دوائیں، الرجی، جانچ، طبی ملاقاتیں اور دیگر معلومات دستیاب ہیں۔ براہ کرم، اس بات سے آگاہ رہیں کہ اگر آپ رضامندی دے دیتے ہیں، تو ایچ آئی وی/ ایڈز، ذہنی صحت، جینیاتی مرض یا جانچ، الکحل یا منشیات کے غلط استعمال، جنسی متعدی امراض اور خاندانی منصوبہ بندی سے متعلق حساس طبی معلومات تک رسائی کی جاسکتی ہے۔

#### Healthix کو رضامندی دینے کے کیا فوائد ہیں؟

- طبی نگہداشت کا معیار بہتر ہوتا ہے اور تحفظ میں اضافہ ہوتا ہے۔
- بار بار تحقیقاتی جانچ اور لیب ٹسٹ کم ہوتے ہیں۔
- خطرناک دواؤں کا استعمال اور الرجی کے ردعمل کا امکان کم ہوتا ہے۔
- کسی طبی ایمرجنسی کی صورت میں تیز رفتاری سے علاج۔
- ڈاکٹروں اور دیگر نگہداشت فراہم کنندگان کے ساتھ بہتر تال میل کے رابطے۔
- کونسے طبی نگہداشت فراہم کنندہ آپ کے طبی ریکارڈوں میں رسائی کرتے ہیں، اس پر آپ کا کنٹرول ہوتا ہے۔

#### کیا میری رازداری محفوظ رکھی گئی ہے؟

Healthix نیویارک ریاستی اور وفاقی پرائیویسی و رازداری کے قوانین کی پابندی کرتی ہے اور اس کو نیویارک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کی طرف سے فنڈ فراہم کیا جاتا ہے اور ریگولیٹ کیا جاتا ہے۔ Healthix صرف اسی صورت میں ان نگہداشت فراہم کنندگان کو آپ کی معلومات تک رسائی کی اجازت دیتی ہے جو آپ کی نگہداشت میں شامل ہوں اور جب آپ نے رضامندی دی ہو۔ Healthix آپ کی طبی معلومات کے تحفظ کے لئے حفاظتی تدبیر اپناتی ہے۔

Healthix کی پرائیویسی اور سکیورٹی پالیسی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے Healthix.org پر جائیں۔


جب آپ کی صحت  
کا معاملہ ہو تو ہر  
تفصیل اہم ہے۔۔۔۔



#### HEALTHIX

Healthix، ایک علاقائی تنظیم برائے طبی معلومات (RHIO) ہے، جو مریضوں کی رضامندی سے طبی صحت کے معلومات کے محفوظ تبادلے کے لئے پورے علاقہ کے طبی نگہداشت فراہم کنندگان کے ساتھ اشتراک کر رہی ہے۔

Healthix 500 سے زیادہ طبی نگہداشت کے مراکز (سہولیات) کو بر ان اور عین نگہداشت کے وقت مریضوں کی محفوظ معلومات فراہم کرتی ہے، جن میں گریٹر نیویارک علاقہ کے ہزاروں ڈاکٹر اور طبی نگہداشت کے پیشہ ور ماہرین شامل ہیں۔



## صحت کی خدمات فراہم کنندگان کو باخبر رکھنے کا مطلب آپ کی بہتر نگہداشت-

کیا یہ بات میرے پس میں ہوگی کہ کون میری طبی معلومات میں رسائی کر سکتا ہے؟  
ہاں، آپ کی طبی معلومات میں رسائی پر آپ کا قابو ہوگا۔ Healthix میں شامل ہونے والے  
برایک نگہداشت فراہم کنندہ Healthix کے توسط سے آپ کی طبی معلومات تک رسائی کرنے  
کے لئے الگ سے آپ کی رضامندی لازمی طور پر حاصل کرے گا۔

### میری رضامندی دینے کا طریقہ کیا ہے؟

آپ کسی ایسے اسپتال میں داخل ہونے پر یا Healthix میں شریک ایسے نگہداشت فراہم کنندہ  
کے ہاں رجسٹریشن کرنے کے دوران Healthix کے مریض کی رضامندی فارم پر دستخط کر کے  
اپنی رضامندی دیتے ہیں۔ آپ کی رضامندی صرف ان افراد کو Healthix میں موجود آپ کی  
طبی معلومات میں رسائی کرنے کی اجازت دیتی ہے جو آپ کی نگہداشت میں شامل ہیں۔

### اگر میں رضامندی دینا نہ چاہوں، تو کیا ہوگا؟


Healthix کو رضامندی دینے کا فیصلہ کرنا رضاکارانہ ہے۔ اگر آپ اپنے نگہداشت فراہم  
کنندگان کو Healthix کے توسط سے اپنی طبی معلومات تک رسائی کرنے کی اجازت نہیں  
دینا چاہتے ہیں - کسی ایمرجنسی کی صورت میں بھی۔ تو آپ Healthix کے مریضوں کے  
رضامندی فارم میں ایسی ظاہر کر سکتے ہیں۔ آپ نیا رضامندی فارم جمع کر کے اپنے فیصلے کو  
کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں۔

### اگر میں رضامندی کا فیصلہ نہ کروں، تو کیا ہوگا؟

اگر آپ وقت پر رضامندی کا فیصلہ نہ دے سکیں، تو آپ کا طبی ریکارڈ کسی ایمرجنسی کی  
صورت میں چند خاص منظور شدہ نگہداشت فراہم کنندگان (مثال کے طور پر، ایمرجنسی روم  
کے معالج) کے لئے قابل رسائی ہوگا۔

### اگر میرے ڈاکٹر Healthix میں شریک نہ ہوں، تو کیا ہوگا؟

اگر آپ کا طبی نگہداشت فراہم کنندہ ابھی تک Healthix میں شامل نہیں ہے، تو وہ کسی بھی  
وقت اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ Healthix بروکلین، کوینز، اسٹائین جزیرہ، منہاٹن اور لانگ  
جزیرہ کے طبی نگہداشت فراہم کنندگان کے ساتھ کام کرتی ہے۔



Healthix آپ کے معالجوں اور  
نگہداشت فراہم کنندگان کو الٹ  
کے ذریعہ وقت پر طبی اطلاعات  
فراہم کر سکتی ہے، تاکہ انہیں اور  
باتوں کے علاوہ یہ معلوم ہو سکے  
کہ آپ کو کس وقت ایمرجنسی روم  
میں داخل کیا جائے۔

Healthix کے رضامندی  
فارم کا نمونہ دیکھنے اور  
اس کے بارے میں مزید  
اطلاعات کے لئے  
[www.Healthix.org](http://www.Healthix.org)  
پر جائیں۔

